

سحری میں روزہ بند کرنے کے بعد کھانے کا حکم
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
میں نے سحری کی اور روزہ بند کرنے کی دعا پڑھ لی ابھی سحری کا ٹائم ختم ہونے
میں ایک گھنٹہ رہتا تھا تو میں سحری کے ٹائم کے دوران پھر کھالیا تو ایسا کرنا کیسا؟
سائل: ایک بھائی (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

سحری کے وقت کے اندر اندر جتنی بار چاہیں کھا سکتے ہیں اگرچہ ہر بار کھانے کے
بعد روزہ بند کرنے کی دعا پڑھ لی ہو کیونکہ فجر کے ٹائم شروع ہونے قبل تک کھانے
پینے کا جواز قرآن سے ثابت ہے۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ أَوْ كَهَاؤُا
یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے فجر سے۔
(البقرہ: ۱۲۸)

اور دعا پڑھنا اصل میں روزے بند کرنے کی نیت کرنا ہے اور فقہاء نے فرمایا کہ رات
کو بند کرنے کی نیت کر چکا ہو پھر بھی اس کے بعد سحری کے ٹائم میں کھا پی سکتا
ہے۔

جیسا کہ بہار شریعت میں ہے؛ رات میں نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا،
تو نیت جاتی نہ رہی وہی پہلی کافی ہے پھر سے نیت کرنا ضرور نہیں۔

(بہار شریعت ج ۱ حصہ ۵ ص ۹۶۹)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

خادم دارالافتاء یو کے

Date:28-03-2020

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding the following matter: I recited the dua for closing the fast, however there was still one hour remaining for sehri to end, and I ate something again; how is it to do this?

Questioner: A brother from England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is fine to eat as many times as you wish within the time of sehri, even if you recited the dua for closing the fast after each time, because the permissibility of eating before the time of fajr starting is established from the Quran:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

'And eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the black thread of the dawn.'

[Surah al-Baqarah, Verse 187]

In addition, reciting the dua is in reality making intention to close the fast. Also, the jurists have stated that if one had made the intention for closing the fast in the night, even then it is fine for him to consume food and drink within the sehri time.

Just as it is stated in Bahar-e-Shariat,

'If he made an intention in the night, and then later on, in the same night, he ate and drank, the intention does not become invalid, rather, the initial intention is sufficient; it is not necessary to make an intention again.'

[Bahar-e-Shariat, vol. 1, part 5, pg. 969]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadrī

Translated by Zameer Ahmed